

اسلام اور جاہلیت

﴿سید ابوالاعلیٰ مودودی﴾

اسلامک پبلی کیشنر (پرائیویٹ) لمٹیڈ
۳۔ کورٹ سٹریٹ لوئے مال، روڈ لاہور، پاکستان

﴿اسلام اور جاہلیت﴾

(یہ مقالہ ۲۳ فروری ۱۹۷۴ء کو مجلس اسلامیات اسلامیہ کالج پشاور کی دعوت پر پڑھا گیا تھا)

انسان کو دنیا میں جتنی چیزوں سے سابقہ پیش آتا ہے ان میں کسی کے ساتھ بھی وہ کوئی معاملہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ اس چیز کی ماہیت و کیفیت اور اپنے اور اس کے باہمی تعلق کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر لے۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ رائے جائے خود صحیح ہو یا غلط، مگر بہر حال اسے ان امور کے متعلق کوئی نہ کوئی رائے قائم رکرنی پڑتی ہے اور جب تک وہ کوئی رائے قائم نہیں کر لیتا یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ میں اس کے ساتھ کیا طرزِ عمل اور کیا رو یہ اختیار کروں۔ یہ آپ کا شب و رہ کا تمہارا ہے آپ جب کسی شخص سے ملتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص کون ہے، کس حیثیت، کس مرتبے کن صفات کا آدمی ہے، اور مجھ سے اس کا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ اس کے بغیر آپ یہ طے کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کو اس کے ساتھ کیا بناؤ کرنا ہے۔ اگر علم نہیں ہوتا تو بہر حال آپ کو قرآن کی بنابرائی پیاسی رائے ہی ان امور کے متعلق قائم کرنی پڑتی ہے، اور جو رو یہ ہی آپ اس کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ اسی رائے کی بناء پر کرتے ہیں۔ جو چیزیں آپ کھاتے ہیں

ان کے ساتھ آپ کا یہ معاہدہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے علم یا آپ کے قیاس میں وہ چیزیں غذائی ضرورت پوری کرتی ہیں جن چیزوں کو آپ پہنچ دیتے ہیں، جن کو آپ استعمال کرتے ہیں، جن کی آپ حفاظت کرتے ہیں، جن کی آپ تعظیم یا تحقیق کرتے ہیں، جن سے آپ ذرائع یا محبت کرتے ہیں، ان سب کے متعلق آپ کے یہ مختلف طرز عمل بھی اس رائے پر منی ہوتے ہیں جو آپ نے ان چیزوں کی ذات و صفات اور اپنے ساتھ ان کے تعلق کے بارے میں قائم کی ہے۔

پھر جو رائے آپ اشیاء کے متعلق قائم کیا کرتے ہیں اس کے صحیح ہونے پر آپ کے رو یہ کا صحیح ہونا اور غلط ہونے پر آپ کے رو یہ کا غلط ہونا منحصر ہوتا ہے۔ اور خود اس رائے کی غلطی و صحت کا مدار اس چیز پر ہوتا ہے کہ آیا آپ نے وہ رائے علم کی بنیاد پر قائم کی ہے، یا قیاس پر، یا وہم پر، یا شخص مشاہدہ حصی پر۔ مثلاً ایک بچہ آگ کو دیکھتا ہے اور مجرد مشاہدہ حصی کی بنیاد پر یہ رائے قائم کرتا ہے کہ یہ براخوب صورت چمک دار کھلونا ہے۔ چنانچہ اس رائے کے نتیجے میں اس سے یہ طرز عمل ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھادیتا ہے۔ ایک ذرائع شخص اسی آگ کو دیکھ کر وہم سے یا قیاس سے یہ رائے قائم کرتا ہے کہ اس کے اندر الوہیت ہے، یا یہ الوہیت کا مظہر ہے۔ چنانچہ اس رائے کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا رو یہ یہ ہوتا چاہیے کہ میں اس کے آگے سر نیاز جھکاؤں۔ ایک تیسرا شخص اسی آگ کو دیکھ کر اس کی ماہیت اور اس کی صفات کی تحقیق کرتا ہے اور علم و تحقیق کی بنیاد پر یہ رائے قائم کرتا ہے کہ

یہ پکانے اور جلانے اور تپانے کی خدمت لیتا ہے۔ ان مختلف رویوں میں سے بچے اور آتش پرست کے رویے جاہلیت کے رویے ہیں، کیونکہ بچے کی رائے کہ آگ محض کھلونا ہے تجربہ سے غلط ثابت ہو جاتی ہے، اور آتش پرست کی رائے کہ آگ کے خود الہ ہے یا مظہر الوہیت ہے، کسی ثبوت علمی پر مبنی نہیں بلکہ محض قیاس و دہم پر مبنی ہے۔ بخلاف اس کے آگ سے خدمت لینے والے کا یہ علمی رویہ ہے۔ کیونکہ آگ کے متعلق اس کی رائے علم پر مبنی ہے۔

زندگی کے بنیادی مسائل:

اس مقدمہ کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب ذرا اپنی نظر کو جزئیات سے گلیات پر پھیلائیے۔ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو موجود پاتا ہے۔ اس کے پاس ایک جسم ہے جس میں بہت سی قوتیں بھری ہوئی ہیں۔ اس کے سامنے زمین و آسمان کی ایک عظیم الشان بساط پھیلی ہوئی ہے جس میں بے حد و حساب اشیاء ہیں اور وہ ان اشیاء سے کام لینے کی قدرت اپنے اندر پاتا ہے۔ اس کے گرد و پیش بہت سے انسان، جانور، نباتات، جمادات غیرہ ہیں اور ان سب سے اس کی زندگی وابستہ ہے۔ اب کیا آپ کے نزدیک یہ بات قابل تصور ہے کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کر سکتا ہے جب تک کہ پہلے خود اپنے بارے میں، ان تمام موجودات کے بارے میں، اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لے؟ کیا وہ اپنی

زندگی کے لیے کوئی راستہ اختیار کر سکتا ہے جب تک یہ طے نہ کر لے کہ میں کون ہوں؟ کیا ہوں؟ ذمہ دار ہوں یا غیر ذمہ دار؟ خود مختار ہوں یا ماتحت ہوں تو کس کا، اور جواب وہ ہوں تو کس کے سامنے؟ میری اس دنیوی زندگی کا کوئی مال ہے یا نہیں اور ہے تو کیا ہے؟ اسی طرح کیا وہ اپنی قوتوں کے لیے کوئی مصرف تجویز کر سکتا ہے جب تک اس سوال کا فیصلہ نہ کر لے کہ یہ جسم اور جسمانی قوتیں اس کی اپنی ملک ہیں یا کسی کا عطیہ ہیں؟ ان کا حساب کوئی لینے والا ہے یا نہیں؟ اور ان کے استعمال کا ضابطہ اسے خود تعین کرتا ہے یا کسی اور کو؟ اسی طرح کیا وہ اپنے گرد و پیش کی اشیاء کے متعلق کوئی طرزِ عمل اختیار کر سکتا ہے جب تک اس امر کا تعین نہ کر لے کہ ان اشیاء کا مالک وہ خود ہے یا کوئی اور؟ ان پر اس کے اختیارات محدود ہیں یا غیر محدود؟ اور محدود ہیں تو حدود مقرر کرنے والا کون ہے؟ اسی طرح کیا وہ آس میں اپنے ابناۓ نوع کے بناوے کی کوئی شکل تعین کر سکتا ہے۔ جب تک اس معاملہ میں کوئی رائے قائم نہ کر لے رہا انسانیت کس چیز سے عبارت ہے؟ انسان اور انسان کے درمیان فرق و امتیاز کی بنیاد کیا ہے؟ اور دوستی و دشمنی، اتفاق و اختلاف، تعاون اور عدم تعاون کی اساس کن امور پر ہے؟ اسی طرح کیا وہ بحیثیتِ مجموعی اس ذمیا کے ساتھ کوئی روایہ اختیار کر سکتا ہے جب تک اس معاملہ میں کسی نتیجہ پر نہ پہنچے کہ یہ نظام کائنات کس قسم کا ہے اور اس میں میری حیثیت کیا ہے؟

جو مقدمہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کی بنا پر بلا تالیل یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان

تمام امور کے متعلق ایک نہ ایک رائے قائم کیے بغیر کوئی روایہ اختیار کرنا غیر ممکن ہے۔ فی الواقع ہر انسان جو دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے ان سوالات کے متعلق شوری طور پر یا غیر شوری طور پر کوئی نہ کوئی رائے ضرور رکھتا ہے اور رکھنے پر مجبور ہے۔ کیونکہ وہ اس رائے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص نے ان سوالات پر فلسفیات غور و فکر کیا ہو اور واضح طور تھیجات قائم کر کے ایک ایک سوال کا فیصلہ کیا ہو، نہیں بہت سے آدمیوں کے ذہن میں ان سوالات کے سرے سے کوئی معین صورت ہوتی ہے نہیں، نہ وہ کبھی ان پر بالا رادہ سوچتے ہیں۔ مگر باوجود اس کے ہر آدمی اجتماعی طور پر ان سوالات کے متعلق منفی یا ثابت پہلو میں ایک رائے پر لازماً پہنچ جاتا ہے، اور زندگی میں اس کا رویہ جو بھی ہوتا ہے لازمی طور پر اس رائے کے مطابق ہوتا ہے۔

یہ بات جس طرح اشخاص کے معاملہ میں صحیح ہے اسی طرح جماعتوں کے معاملہ میں بھی صحیح ہے۔ چونکہ یہ سوالات انسانی زندگی کے بنیادی سوالات ہیں اس لیے کسی نظام تمدن و تہذیب اور کسی ہمیت اجتماعی کے لیے کوئی لا جھ عمل بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان سوالات کا کوئی جواب معین نہ کر لیا جائے۔ اور ان کا جواب جو بھی معین کیا جائے گا اسی کے لحاظ سے اخلاق کا ایک نظریہ قائم ہو گا، اسی کی نوعیت کے مطابق زندگی کے مختلف شعبوں کی تشکیل ہو گی اور فی الجملہ فوراً تمدن ویسا ہی رنگ اختیار کرے گا جیسا اس جواب کا مقتضا ہو گا۔ درحقیقت اس معاملہ میں کوئی تناقض ممکن ہی نہیں ہے۔ خواہ ایک شخص کا رویہ ہو یا ایک سوسائٹی کا، بہر حال وہ ٹھیک وہی

نوعیت اختیار کرے گا، جو ان سوالات کے جوابات کی نوعیت ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر آپ چاہیں تو ایک شخص یا ایک جماعت کے روایہ کا تجزیہ کر کے باسانی یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس روایہ کی تھی میں زندگی کے ان بیاناتی سوالات کا کونسا جواب کام کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ بات قطعی محل ہے کہ کسی شخص یا جماعتی روایہ کی نوعیت کچھ ہوا اور ان سوالات کے جواب کی نوعیت کچھ اور ہو۔ اختلاف زبانی دعوے اور واقعی روایے کے درمیان تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ان سوالات کا جو جواب درحقیقت نفس کے اندر ممکن ہے اس کی نوعیت اور عملی روایہ کی نوعیت میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔

اچھا ہے میں ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہیے۔ زندگی کے بیاناتی مسائل جن کے متعلق ابھی آپ نے سنا کہ ان کا کوئی حل اپنے ذہن میں ہٹھیں کیے بغیر آدمی دُنیا میں ایک قدم نہیں چل سکتا، اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ سب امور غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کوئی جواب افق پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ ہر انسان دُنیا میں آتے ہی اس کو پڑھ لے، اور ان کا کوئی جواب ایسا بد مہیں نہیں ہے کہ ہر انسان کو خود بخود معلوم ہو جائے۔ اسی وجہ سے ان کا کوئی ایک حل نہیں ہے جس پر سارے انسان متفق ہوں۔ بلکہ ان کے بارے میں ہمیشہ انسانوں کے درمیان اختلاف رہا ہے اور ہمیشہ مختلف انسان مختلف طریقوں سے ان کو حل کرتے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو حل کرنے کی کیا کیا صورتیں ممکن ہیں، کیا کیا صورتیں دُنیا میں اختیار کی گئی ہیں اور ان مختلف صورتوں سے جو حل نکلتے ہیں وہ کس قسم کے ہیں۔ ان کے حل کی ایک صورت یہ

ہے کہ آدمی اپنے حواس پر اعتماد کرے اور حواس سے جیسا کچھ محسوس ہوتا ہے اُسی کی بناء پر ان امور کے متعلق ایک رائے قائم کر لے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ مشابہہ حسی کے ساتھ وہم و قیاس کو ملا کر ایک نتیجہ اخذ کیا جائے۔

تیسرا صورت یہ ہے کہ پیغمبروں نے حقیقت کا براءہ راست علم رکھنے کا دعوے کرتے ہوئے ان مسائل کا جو حل بیان کیا ہے اس کو قبول کر لیا جائے۔

دنیا میں اب تک ان مسائل کے حل کی یہی تین صورتیں اختیار کی گئی ہیں اور غالباً یہی تین صورتیں ممکن بھی ہیں۔ ان میں سے ہر صورت ایک جدا گانہ طریقہ سے ان مسائل کو حل کرتی ہے، ہر ایک حل سے ایک خاص قسم کا روایہ وجود میں آتا ہے اور ایک خاص نظامِ اخلاف اور نظامِ تمدن بنتا ہے جو اپنی بنیادی خصوصیات میں دوسرے تمام طوں میں پیدا کردہ رویوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اب میں دیکھانا چاہتا ہوں کہ ان مختلف طریقوں سے ان مسائل کے کیا حل نکلتے ہیں، اور ہر ایک حل کس قسم، روایہ پیدا کرتا ہے۔

خاص جاہلیت:

حسوس پر اعتماد کر کے جب انسان ان مسائل کے متعلق کوئی رائے قائم کرتا ہے تو اس طرز کی میں فطرت کے قاضے سے وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ کائنات کا یہ سارا

نظام ایک اتفاقی ہنگامہ وجود، ظہور ہے جس کے پیچھے کوئی مصلحت اور مقصد نہیں۔ یونہی بن گیا ہے، یونہی چل رہا ہے، یونہی بنے تجھے قسم ہو جائے گا۔ اس کا کوئی مالک نہیں آتا، لہذا وہ یا تو ہے، ہی نہیں یا اگر ہے تو انسان کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ انسان ایک قسم کا جانور ہے جو شاید اتفاقاً پیدا ہو گیا ہے۔ کچھ جنہیں کہ اس کو کسی نے پیدا کیا یا خود پیدا ہو گیا۔ بہر حال یہ سوال خارج از بحث ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ اس زمین پر پایا جاتا ہے، کچھ خواہشیں رکھتا ہے۔ جنہیں پورا کرنے کے لیے اس کی طبیعت اندر سے زور کرتی ہے، کچھ قویٰ اور کچھ آلات رکھتا ہے جو ان خواہشوں کی تکمیل کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور اس کے گرد و پیش زمین کے دامن پر بے حد و حساب سامان پھیلا ہوا ہے جس پر یہ اپنے قویٰ اور آلات کو استعمال کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے، اور اس کی قوتوں کا کوئی مصرف اس کے سوانحیں کہ یہ اپنی خواہشات و ضروریات کی سے زیادہ کمال کے ساتھ پورا کرے اور دنیا کی کوئی حیثیت اس کے سوانحیں ہے کہ یہ ایک خوان لیغا ہے جو اس لیے پھیلا ہوا ہے کہ انسان اس پر ہاتھ مارے۔ صاحب امر نہیں جس کے سامنے انسان جواب دہ، ہو اور نہ کوئی علم کا منع اور ہدایت نہ۔ چشمہ موجود ہے جہاں سے انسان کو اپنی زندگی کا قانون مل سکتا ہو۔ لہذا انسان ایک خود مختار اور غیر ذمہ دار ہستی ہے۔ اپنے لیے ضابطہ و قانون بنانا اور اپنی قوتوں کا مصرف تجویز کرنا اور موجودات کے ساتھ اپنے طرزِ عمل کا تعین کرنا اس کا اپنا کام ہے اس کے لیے اگر کوئی ہدایت ہے تو جانوروں کی زندگی میں، پھر وہ کی

سرگزشت میں یا خود اپنی تاریخ کے تجربات میں ہے اور اگر کسی کے سامنے جواب دہ ہے تو آپ اپنے سامنے یا اُس اقتدار کے سامنے ہے جو خود انسانوں ہی میں سے پیدا ہو کر افراد پر مستولی ہو جائے۔ زندگی جو کچھ ہے یہی دُنیوی زندگی ہے اور اعمال کے سارے نتائج اسی زندگی کی حد تک ہیں۔ الہذا صحیح اور غلط، مفید اور مضر، قابل ترک ہونے کا فیصلہ صرف انہی نتائج کے لحاظ سے کیا جائے گا جو اس دُنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔

یہ ایک پورا نظریہ حیات ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام بنیادی مسائل کا جواب سی مشاہدہ پر دیا گیا ہے، اور اس جواب کا ہر جزو دوسرے جز کے ساتھ کم از کم ایک منطقی ربط، ایک مزاہی موافقت ضرور رکھتا ہے جس کی وجہ سے انسان دُنیا میں ایک ہموار و یکساں رو یہ اختیار کر سکتا ہے، قطع نظر اس سے کہ یہ جواب اور اس سے پیدا ہونے والا رو یہ بجائے خود صحیح ہو یا غلط۔ اب اُس رو یہ پر ایک نگاہ ڈالیے جو اس جو اب کی بنابرآدمی دُنیا میں اختیار کرتا ہے۔

انفرادی زندگی میں اس نقطۂ نگاہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اول سے اکر آخوند خود مختار اور غیر ذمہ دار ان طرزِ عمل اختیار کر لے۔ وہ اپنے آپ کو اپنے جسم اور اپنی جسمانی قتوں کا مالک سمجھے گا، اس لیے اپنے حصہ مٹھا جس طرح چاہے گا انہیں استعمال کرے گا۔ دُنیا کی جو چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں آئیں گی اور جن انسانوں پر اس کو اقتدار حاصل ہو گا ان سب کے ساتھ وہ اس طرح برداشت کرے گا جیسے

کہ وہ ان کا مالک ہے۔ اس کے اختیارات کو محدود کرنے والی چیز صرف قوانین
قدرت کی حدیں اور اجتماعی زندگی کی ناگزیر بندشیں ہوں گی۔ خود اس کے اپنے نفس
میں کوئی ایسا اخلاقی احساسِ ذمہ داری کا احساس اور کسی بازپُرس کا خوف..... نہ ہو گا جو
اسے شتر بے مہار ہونے سے روکتا ہو۔ جہاں خارجی رکاوٹیں نہ ہوں، یا جہاں وہ ان
رکاوٹوں کے علی الغم کام کرنے پر قادر ہو، وہاں تو اس کے عقیدے کا فطری انتظام
یہی ہے کہ وہ ظالم، بد دیانت، شریر اور مفسد ہو۔ وہ فطرت خود غرض، مادہ پرست اور ابن
الوقت ہو گا۔ اس کی زندگی کا کوئی مقصد اپنی نفسانی خواہشات اور حیوانی ضروریات کی
خدمت کے سوانح ہو گا اور اس کی نگاہ میں قدر و قیمت صرف ان چیزوں کی ہو گی جو اس
کے اس مقصدِ زندگی کے لیے کوئی قیمت رکھتی ہوں۔ افراد میں یہ سیرت و کردار پیدا
ہوتا اس عقیدے کا فطری اور منطقی نتیجہ ہے۔ بے شک یہ ممکن ہے کہ مصلحت اور دُور
اندیشی کی بنابر ایسا شخص ہمدرد ہو ایسا ہر پیشہ ہو اپنی قوم کی فلاح و ترقی کے لیے جان توڑ
کوشش کرتا ہو اور فی الجملہ اپنی زندگی میں ایک طرح کے ذمہ دار اخلاق کا اظہار
کرے۔ لیکن جب آپ اس کے اس روایہ کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہو گا کہ دراصل
یہ اس کی خود غرضی و نفاذیت ہی کی توسعہ ہے۔ وہ اپنے ملک یا اپنی قوم کی بھلائی میں
اپنی بھلائی دیکھتا ہے اس لیے اس کی بھلائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا شخص زیادہ
سے زیادہ بُس ایک نیشنلٹ ہی ہو سکتا ہے۔

پھر جو سماں اس ذہنیت کے افراد سے بنے گی اس کی امتیازی خصوصیات یہ

ہوں گی:-

سیاست کی بنیاد انسانی حاکمیت پر قائم ہوگی، خواہ وہ ایک شخص یا ایک خاندان یا ایک طبقہ کی حاکمیت ہو، یا جمہور کی حاکمیت۔ زیادہ سے زیادہ بلند اجتماعی تصور جو قائم کیا جاسکے وہ بس دولتِ مشترکہ (Common Wealth) کا تصور ہو گا۔ اس مملکت میں قانون ساز انسان ہوں گے، تمام قوانین خواہش اور تجربی مصلحت کی بنیاد پر بنائے اور بد لے جائیں گے، اور منفعت پرستی و مصلحت پرستی ہی کے لحاظ سے پالیسیاں بھی بنائی اور بد لی جائیں گی۔ مملکت کے حدود میں وہ لوگ زور کر کے اُبھر آئیں گے جو سب سے زیادہ طاقت و را در سب سے زیادہ چالاک، مکار، جھوٹے، دعاز باز، سنگ دل اور خبیث انسن ہوں گے؟ سوسائٹی کی رہنمائی اور مملکت کی زمام کارانگی کے ہاتھ میں ہوگی اور ان کی کتاب آئیں میں زور کا نام حق اور بے روزی کا نام باطل ہو گا۔

تمدن و معاشرت کا سارا نظام نفس پرستی پر قائم ہو گا۔ لذاتِ نفس کی طلب ہر اخلاقی قید سے آزاد ہوتی چلی جائے گی اور تمام اخلاقی معیار اس طرح قائم کیے جائیں گے کہ ان کی وجہ سے لذتوں کے حصول میں کم سے کم رکاوٹ ہو۔

اسی ذہنیت سے آرت اور لٹریچر متاثر ہوں گے اور ان کے اندر عربی و شہروانیت کے عناصر بڑھتے چلے جائیں گے۔

معاشی زندگی میں کبھی جا گیرداری سشم بر سر عروج آئے گا، کبھی سرمایہ داری

نظام اس کی جگہ لے گا، اور کبھی مزدور شورش کر کے اپنی ڈکٹیٹری شپ قائم کر لیں گے۔
عدل سے بہر حال معیشت کا رشتہ کبھی قائم نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ دنیا اور اس کی ہولت کے
باہر سے جس اس سوسائٹی کے ہر فرد کا بنیادی رویہ اس تصور پر ہوتی ہو گا کہ یہ ایک خواں یعنی
جس پر حسب موقع ہاتھ مارنے کے لیے وہ آزاد ہے۔

پھر اس سوسائٹی میں افراد کو تیار کرنے کے لیے تعلیم و تربیت کا جو نظام ہو گا اس کا
مزاونگ اُن ان تصریحات اور اسی روایہ کے مناسب حال ہو گا اس میں ہر تی آنے والی
نس سے دو باور اشیاءں اور ذینیا میں انسانی کی حیثیت کے متعلق وہی تصور دیا جانے گا جس
کی تشریح ہے اُو پر کی ہے۔ تمام معلومات خواہ وہ کسی شعبہ علم سے متعلق ہوں، اُن کو
انہی تحریک کے ساتھ دی جائیں گی کہ آپ سے آپ ان کے ذہن میں زندگی کا یہ
تصویر پہنچا جائے اور پھر ساری تربیت اس ڈھنگ کی ہو گی کہ وہ زندگی میں یہی روایہ
افتیکار کرے۔ اسی طرز کی سوسائٹی میں کھپ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس تعلیم و
تربیت ان اصولیات کے متعلق مجھے آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ
لوگوں، ماں دادی اتنی تجویز ہے۔ جن درس گاہوں میں آپ تعلیم پار ہے یہی وہ سب اسی
نسل پر قائم ہوں گے۔ اگر چنان کے نام اسلامیہ کالج اور مسلم یونیورسٹی وغیرہ ہیں۔
یہ روایہ جس نے تشریح میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے خالص جاہلیت کا
روایت۔ اس کی نومیت وہی ہے جو اس بچے کے رویے کی نوعیت ہے جو محض حصی
ہے۔ مثلاً میں اُن کو ایک خوب صورت کھلونا سمجھتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ

وہاں اس مشاہدے کی غلطی فوراً تجربہ سے ظاہر ہو جاتی ہے کیوں کہ جس آگ کو کھلونا سمجھ کر وہ دست اندازی کا رو یہ اختیار کرتا ہے وہ گرم آگ ہوتی ہے، ہاتھ لگاتے ہی فوراً بہادیتی ہے کہ میں کھلونا نہیں ہوں۔ بخلاف اس کے یہاں مشاہدے کی غلطی بڑی دیر میں کھلتی ہے، بلکہ بہتوں پر کھلتی ہی نہیں کیونکہ جس آگ پر یہ ہاتھ ڈالتے ہیں اس کی آنچ دھیمی ہے، فوراً چکانہیں دیتی بلکہ صد یوں تک تپانی رہتی ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص تجربات سے سبق لینے کے لیے تیار ہو تو شب دروز کی زندگی میں اس نظریہ کی بدلت افراد کے بے ایمانیوں، حکام کے مظالم، منصفوں کے بے انصافیوں، مال دراویں کی خود غرضیوں اور عام لوگوں کی بد اخلاقیوں کا جو تلخ تجربہ اس کا ہوتا ہے، اور بڑے پیارے پر اسی نظریہ سے قوم پرستی، امیری لیزم، جنگ و فساد، ملک گیری اور اقوام کشمی کے جو شرارے نکلتے ہیں، ان کے چرکوں سے وہ نجیبہ نکال سکتا ہے کہ یہ رو یہ جاہلیت کا رو یہ، عملی رو یہ نہیں ہے۔ کیونکہ انسان نے اپنے متعلق اور نظام کائنات کے متعلق جو رائے قائم کر کے یہ رو یہ اختیار کیا ہے وہ امر واقعہ کے مطابق نہیں ہے ورنہ اس سے یہ بڑے نتائج ظاہر نہ ہوتے۔

اب ہمیں دوسرا طریقہ کا جائزہ لینا چاہیے۔ زندگی کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ مشاہدے کے ساتھ قیاس و وہم سے کام لے کر ان مسائل کے متعلق کوئی رائے قائم کی جائے۔ اس طریقے سے تین مختلف رائیں قائم کی گئی ہیں اور ہر ایک رائے سے ایک خاص قسم کا پیدا ہوا ہے۔

۱۔ شرک:

ایک رائے یہ ہے کہ کائنات کا یہ نظام بے خداوند تو نہیں ہے مگر اس کا ایک خداوند (اللہ یا رب) نہیں ہے بلکہ بہت سے خداوند (اللہ) اور ارباب ہیں۔ کائنات کی مختلف قوتوں کا سرسرشہ مختلف خداوں کے ہاتھ میں ہے اور انسان کی سعادت و شقاوتوں، کامیابی و نامی، نفع و نقصان بہت سی ہستیوں کی مہربانی پر منحصر ہے۔ یہ رائے جن لوگوں نے اختیار کی ہیں انہوں پھر اپنے وہم و قیاس سے کام لے کر یہ تھین کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہ خدائی کی طاقتیں کہاں کہاں اور کس کس کے ہاتھ میں ہیں اور جن جن چیزوں سے بھی ان کی نگاہ جا کر ٹھہری ہے انہی کو خدامان لیا ہے۔

اس رائے کی بنابر جو طرزِ عمل انسان اختیار کرتا ہے اس کی امتیازی خصوصیات

یہ ہیں:-

اولاً: اس سے آدمی پوری زندگی اوہاں کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ وہ کسی علمی ثبوت کے بغیر مجرداً پنے وہم و خیال سے بہت سی چیزوں کے متعلق یہ رائے قائم کرتا ہے کہ وہ فوق الفطري طریقوں سے اس کی قسم پر اچھا یا بد اثر ذاتی ہیں۔ اس لیے وہ ابھی اثرات کی موبہوم امید اور بُرے اثرات کے موبہوم خوف میں جتنا ہو کر اپنی بہت سی قوتیں لاحاصل طریقہ سے ضائع کر دیتا ہے۔ کہیں کسی قبر سے امید لگاتا ہے کہ یہ میرا کام کر دے گی۔ کہیں کسی بُت پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ میری قسمت بنادے

گا۔ کہیں کسی اور خیالی کا ساز کو خوش کرنے کے لیے دوڑتا پھرتا ہے۔ کہیں کسی بُرے شگون سے دل شکستہ ہو جاتا ہے اور کہیں کسی اچھے شگون سے توقعات کے خیالی قلعے بنا لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے خیالات اور اس کی کوششوں کی فطری تدایر سے ہٹا کر ایک بالکل غیر فطری راستے پر ڈال دیتی ہیں۔

ثانیاً: اس زانے کی وجہ سے پوچاپاٹ، نذر و نیاز، اور دوسرا رسماں کا ایک لمبا چوڑا استور اعمل بنتا ہے جس میں الجھ کر آدمی کی سی و عمل کا ایک بڑا حصہ بے نتیجہ مشغول ہو جاتا ہے۔

ثالثاً: جو لوگ اس مشرکانہ و ہم پرستی میں بنتا ہوتے ہیں ان کو بے وقوف بنا کر اپنے جاں میں پھانس لینے کا چالاک آدمیوں کو خوب موقع مل جاتا ہے۔ کوئی بادشاہ بن بیٹھتا ہے اور سورج، چاند اور دوسرے دیوتاؤں سے اپنا نسب ملا کر لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ ہم بھی خداوں میں سے ہیں اور تم ہمارے بندے ہو۔ کوئی پروہنٰت یا مجاور بن بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا نقش و نقصان جن سے وابستہ ہے ان سے ہمارا تعلق ہے اور تم ہمارے ہی واسطے ان تک پہنچ سکتے ہو۔ کئی پنڈت اور بیرون بن جاتا ہے اور تعویذ گندوں اور منتروں اور عملیات کا ذہن گرچا کر لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ ہماری یہ چیزیں فوق الفطری طریقے سے تمہاری حاجتیں پوری کریں گی۔ پھر ان سب چالاک لوگوں کی نسلیں مستقل خاندان اور طبقوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں جن کے حقوق، امتیازات اور اثرات امتدادِ زمانہ کے ساتھ ساتھ بڑھتے اور گہری بنیادوں پر جنمتے چلے

جاتے ہیں۔ اس طرح اس عقیدہ کی بدولت عام انسانوں کی گردنوں پر شاہی خاندانوں، مذہبی عہدہ داروں اور روحانی پیشواؤں کی خدائی کا جواہ مسلط ہوتا ہے اور یہ بناؤٹی خدا آن کو اس طرح اپنا خادم بناتے ہیں کہ گویا وہ آن کے لیے دودھ دینے اور سواری اور بار بارداری کی خدمت انجام دینے والے جانور ہیں۔

رابعاً: یہ نظریہ نہ تو علوم و فنون، فلسفہ و ادب، اور تمدن و سیاست کے لیے کوئی مستقل بنیاد فراہم کرتا ہے اور نہ ان خیالی خداوں سے انسانوں کو کسی قسم کی ہدایت ہی ملتی ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں۔ ان خداوں سے تو انسان کا تعلق صرف اس حد تک محدود رہتا ہے کہ یہ آن کی مہربانی و اعانت حاصل کرنے کے لیے بس عبودیت کے چند مراسم ادا کر دے۔ باقی رہے زندگی کے معاملات تو ان کے متعلق قوانین اور ضوابط بنانا اور عمل کے طریقے معین کرنا انسان کا اپنا کام ہوتا ہے۔ اس طرح مشرک سوسائٹی عملانہی سب را ہوں پر چلتی ہے۔ جن کا ذکر خالص جاہلیت کے سلسلہ میں ابھی میں آپ سے کر چکا ہوں۔ وہی اخلاق، وہی اعمال، وہی طرز تمدن، وہی سیاست، وہی نظامِ معيشت اور وہی علم و ادب۔ ان تمام حیثیتوں سے شرک کے رویے اور خالص جاہلیت کے رویے میں کوئی اصولی فرق نہیں ہوتا۔

۲۔ رہبائیت:

دوسری رائے جو مشاہدے کے ساتھ قیاس و وہم کو ملا کر قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے

کہ دنیا اور یہ جسمانی وجود انسان کے لیے ایک دارالعذاب ہے۔ انسان کی روح ایک سزا یا فتنہ قیدی کی حیثیت سے اس قفس میں بند کی گئی ہے۔ لذات و خواہشات اور تمام وہ ضروریات جو اس تعلق کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہیں اصل میں یہ اس قید خانہ کے طوق و مسلط ہیں۔ انسان جتنا اس دنیا اور اس کی چیزوں سے تعلق رکھے گا اتنا ہی ان زنجیروں میں پھنستا چلا جائے گا اور مزید عذاب کا مستحکم ہو گا۔ نجات کی صورت میں اس کے سوا کوئی نہیں کہ زندگی کے سارے بکھیروں سے قطع تعلق کیا جائے، خواہشات کو مٹایا جائے، لذات سے کنارہ کشی کی جائے، جسمانی ضروریات اور نفس کے مطالبوں کو پورا کرنے سے انکار کیا جائے، ان تمام محبوتوں کو دل سے نکال دیا جائے جو گوشت و خون کے تعلق سے پیدا ہوتی ہیں، اور اپنے اس دشمن (یعنی نفس و جسم) کو مجاهدوں اور ریاضتوں سے اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ روح پر اس کا تسلط قائم نہ رہ سکے۔ اس طرح روح ہلکی اور پاک صاف ہو جائے گی اور نجات کے بلند مقام پر اُڑنے کی طاقت حاصل کر لے گی۔

اس رائے میں جورو یہ پیدا ہوتا ہے اس کی خصوصیات یہ ہیں:-

اولاً: اس سے انسان کے تمام رحمات، اجتماعیت سے انفرادیت کی طرف اور تمدن سے وحشت کی طرف پھر جاتے ہیں۔ وہ دنیا اور اس کی زندگی سے منہ موڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے، اس کی ساری زندگی عدم تعاون اور ترک موالات کی زندگی بن جاتی ہے اور اس کے اخلاق زیادہ تر سلبی (Negative)

نوعیت کے ہو جاتے ہیں۔

ثانیاً: اس رائے کی بدولت نیک لوگ دنیا کے کار و بار سے ہٹ کر اپنی نجات کی فکر میں گوشہ ہائے عزلت کی طرف چلے جاتے ہیں اور دنیا کے سارے معاملات شریر لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔

ٹالٹا: تمدن میں اس رائے کا اثر جس حد تک پہنچتا ہے، اس سے لوگوں کے اندر سلبی اور اخلاقیات، غیر تمدنی (Un - Social) اور انفرادیت پسندانہ (Individualistic) رحمات اور مایوسانہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کی عملی قوتیں سرد ہو جاتی ہیں۔ وہ ظالموں کے لیے زم نوالہ بن جاتے ہیں۔ اور ہر جابر حکومت ان کو آسانی سے قابو میں لا سکتی ہے۔ درحقیقت یہ نظریہ عوام کو ظالموں کے لیے ذلول (Tame) بنانے میں جادو کی تاثیر رکھتا ہے۔

رابعاً: انسانی فطرت سے اس راہبانہ نظریہ کی مستقل جنگ رہتی ہے اور اکثر یہ اس سے شکست کھا جاتا ہے۔ پھر جب یہ شکست کھاتا ہے تو اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اسے حیلوں کے دامن میں پناہ لینی پڑتی ہے اسی وجہ سے کہیں کفارہ کا عقیدہ ایجاد ہوتا ہے، کہیں عشق مجازی کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے اور کہیں ترک دنیا کے پر دے میں وہ دنیا پرستی کی جاتی ہے۔ جس کے آگے دنیا پرست بھی شرما جائیں۔

۳۔ ہمہ اوست:

تیسرا نئے جو مشاہدے اور قیاس کی آمیزش سے پیدا ہوتی ہے یہ ہے کہ انسان اور کائنات کی تمام چیزیں بجائے خود غیر حقیقی ہیں۔ ان کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے۔ دراصل ایک وجود نے ان ساری چیزوں کو خود اپنے ظہور کا واسطہ بنایا ہے اور وہی ان سب کے اندر کام کر رہا ہے۔ تفصیلات میں اس نظریہ کی بے شمار صورتیں ہیں، مگر ان ساری تفصیلات کے اندر قدر مشترک یہی ایک خیال ہے کہ تمام موجودات ایک ہی وجود کا ظہور خارجی ہیں اور دراصل موجود ہی ہے باقی کچھ نہیں۔

اس نظریہ کی بنابر انسان جو رویہ اختیار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے خود اپنے ہونے ہی میں شک ہو جاتا ہے کہا کہ وہ کوئی کام کرے۔ وہ اپنے آپ کو ایک کٹھ پتلی سمجھتا ہے جسے کوئی اور نچار ہا ہے یا جس کے اندر کوئی اور ناق رہا ہے۔ وہ اپنے تخیلات کے نئے میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی مقصد زندگی ہوتا ہے اور نہ کوئی را عمل۔ وہ خیال کرتا ہے کہ میں خود تو کچھ ہوں ہی نہیں، نہ میرے کرنے کا کوئی کام ہے، نہ میرے کیسے سے کچھ ہو سکتا ہے۔ اصل میں تو وہ وجود کلی جو مجھ میں اور تمام کائنات میں سراحت کیے ہوئے ہے اور ازال سے ابد تک چلا جا رہا ہے، سارے کام اسی کے ہیں اور وہی سب کچھ کرتا ہے۔ وہ اگر مکمل ہے تو میں بھی مکمل ہوں، پھر کوشش کس چیز کے لیے؟ اور وہ اگر اپنی تیکیل کے لیے کوشش ہے تو جس عالمگیر حرکت کے ساتھ وہ کمال

کی طرف جا رہا ہے۔ اسی کی پیٹ میں ایک جز کی حیثیت سے میں بھی آپ سے آپ چلا جاؤں گا۔ میں ایک جزو ہوں، مجھے کیا خبر کہ کل کدھر جا رہا ہے اور کدھر جانا چاہتا ہے اس طرزِ خیال کے عملی نتائج قریب تریب وہی ہیں جو بھی میں نے رہبانہ نظریہ کے سلسلے میں بیان کیے ہیں۔ بلکہ بعض حالات میں اس رائے کو اختیار کرنے والے کا طرزِ عمل ان لوگوں کے رویے سے ملتا جلتا ہے جو خالص جاہلیت کا نظریہ اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ اپنی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی بائیکس دے دیتا ہے اور پھر جدھر خواہشات لے جاتی ہیں۔ اس طرف یہ سمجھتے ہوئے بے تکلف چلا جاتا ہے کہ جانے والا وجود کلی ہے نہ کہ میں۔

پہلے نظریے کی طرح یہ تینوں نظریے بھی جاہلیت کے نظریے ہیں اور اس بنابر جو رویے ان سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی جاہلیت ہی کے رویے ہیں۔ اس لیے کہ اول تو ان میں سے کوئی نظریہ بھی کسی علمی ثبوت پر مبنی نہیں ہے بلکہ محض خیالی اور قیاسی بنیادوں پر مختلف رائے میں قائم کر لی گئی ہیں۔ دوسراے ان کا واقعہ کے خلاف ہونا تجربہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر ان میں کوئی رائے بھی امر واقعی کے مطابق ہوتی تو اس کے مطابق عمل کرنے سے نتائج تجربے میں نہ آتے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کو جہاں کہیں انسان نے کھایا اس کے پیٹ میں درد ضرور ہوا تو اس تجربہ سے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ فی الواقع معدہ کی ساخت اور اس کی طبیعت سے یہ چیز مطابقت نہیں رکھتی۔ بالکل اسی طرح جب یہ حقیقت ہے کہ شرک، رہبانیت اور وجودیت کے

نظریے اختیار کرنے سے انسان کو بحثیت مجموعی نقصان ہی پہنچا تو یہ بھی اس امر کا ثبوت ہے کہ ان میں سے کوئی نظریہ بھی واقعہ اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔

اسلام:

اب ہمیں تیسری صورت کو لینا چاہیے جو زندگی کے ان بنیادی مسائل کے متعلق رائے قائم کرنے کی آخری صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبروں نے ان مسائل کا جو حل پیش کیا ہے اُسے قبول کیا جائے۔

اس طریقہ کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی اجنبی مقام پر آپ ہوں اور آپ کو خود اس مقام کے متعلق کوئی واقعیت نہ ہو تو آپ کسی دوسرے شخص سے دریافت کریں اور اس کی رہنمائی میں وہاں کی سیر کریں۔ ایسی صورتِ حال جب پیش آتی ہے تو آپ پہلے اس شخص کو تلاش کرتے ہیں جو خود واقف کارہونے کا دعوے کرے۔ پھر آپ قرآن سے اس امر کا اطمینان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شخص قابلِ اعتماد ہے یا نہیں۔ پھر آپ اس کی رہنمائی میں چل رہ دیکھتے ہیں اور جب تجربہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق جو عمل آپ نے کیا اس سے کوئی برا نتیجہ نہیں نکلا تو آپ کو پوری طرح اطمینان ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ شخص واقف کارہتا اور اس جگہ کے متعلق جو معلومات اس نے دی تھیں وہ صحیح تھیں۔ یہ ایک علمی طریقہ ہے، اور اگر کوئی دوسرا طریقہ علمی ممکن نہ ہو تو پھر رائے قائم کرنے کے لیے یہی ایک صحیح

طریقہ ہو سکتا ہے۔

اب دیکھئے، دنیا آپ کے لیے ایک اجنبی جگہ ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا انتظام کس قسم کا ہے۔ کس آمین پر یہ کارخانہ مل رہا ہے۔ اس کے اندر آپ کی کیا حیثیت ہے، اور یہاں آپ کے لیے کیا روایہ مناسب ہے۔ آپ نے پہلے یہ رائے قائم کی کہ جیسا با ظاہر نظر آتا ہے اصل حقیقت بھی وہی ہے۔ آپ نے اس رائے عمل کیا مگر نتیجہ غلط نکلا۔ پھر آپ نے قیاس اور گمان کی بناء پر مختلف رائے قائم کیں اور ہر ایک پر عمل کر کے دیکھا، مگر ہر صورت میں نتیجہ غلط ہی رہا۔ اس کے بعد آخری صورت یہی ہے کہ آپ پیغمبروں کی طرف رجوع کریں۔ یہ لوگ واقف کار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے حالات کی جتنی چھان بین کی جاتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت امین، نہایت نیک، نہایت بے غرض، اور نہایت صحیح الدماغ لوگ ہیں۔ الہذا با دی انتظار میں ان پر اعتماد کرنے کے لیے کافی وجہ موجود ہے۔ اب صرف یہ دیکھنا باقی رہ جاتا ہے کہ دنیا کے متعلق اور دنیا میں آپ کی حیثیت کے متعلق اور دنیا میں آپ کی حیثیت کے متعلق جو معلومات وہ دیتے ہیں وہ کہاں تک لگتی ہوئی ہیں، ان کے خلاف کوئی عملی ثبوت تو نہیں ہے، اور ان کے مطابق جو روایہ دنیا میں اختیار کیا گیا وہ تجربہ سے کیا ثابت ہوا۔ اور ان کے مطابق جو روایہ دنیا میں اختیار کیا گیا وہ تجربہ سے کیا ثابت ہوا۔ اگر تحقیق سے ان تینوں بالتوں کا جواب بھی اطمینان بخش نکلتے تو ان کی رہنمائی پر ایمان لے آنا چاہیے اور زندگی میں وہی روایہ

اختیار کرنا چاہیے جو اس نظریہ کے مطابق ہو۔

جیسا کہ میں نے اور پر عرض کیا پچھلے جاہلیت کے طریقوں کے مقابلہ میں یہ طریقہ علمی طریقہ ہے اور اگر اس علم کے آگے آدمی سر تسلیم کر دے، اگر خود سری اور خود رائی کو چھوڑ کر اس علم کا اتباع کرے، اور اپنے رویہ کو انہی حدود کا پابند کر دے جو اس علم نے قائم کی ہیں، تو اسی طریقہ کا نام ”اسلامی طریقہ“ ہے۔

انبیاء کا نظریہ کائنات و انسان:

پیغمبر کہتے ہیں:-

یہ سارا عالم ہست و بود جو انسان کے گرد و پیش پھیلا ہوا ہے اور جس کا ایک جزء انسان بھی ہے۔ کوئی اتفاقی ہنگامہ نہیں ہے بلکہ ایک منظم، باضابطہ سلطنت ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا ہے، وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس کا اکیلا حاکم ہے۔ یہ ایک کلی نظام (Totalitarian System) ہے۔ جس میں تمام اختیارات مرکزی اقتدار کے ہاتھ میں ہیں۔ اس مقدار اعلیٰ کے سو ایساں کسی کا حکم نہیں چلتا۔ تمام قوتیں، جو نظامِ عالم میں کام کر رہی ہیں، اسی کے زیر حکم ہیں اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے حکم سے سرتباں کر سکے، یا اس کے اذن کے بغیر اپنے اختیار سے کوئی حرکت کرے۔ اس ہمہ سیکر سسٹم کے اندر کسی کی خود مختاری (Independence) اور غیر ذمہ داری (Irresponsibility) کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ فطرہ ہو سکتی ہے۔

انسان یہاں پیدا کی رعیت (Born Subject) ہے۔ رعیت ہونا اس کی مرضی پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ یہ رعیت ہی پیدا ہوا ہے، اور رعیت کے سوا کچھ اور ہونا اس کے امکان میں نہیں ہے۔ لہذا یہ خود اپنے لیے طبقی زندگی وضع کرنے اور اپنی ڈیوٹی آپ تجویز کر لینے کا حق نہیں رکھتا۔

یہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے کہ اپنی ملک میں تصرف کرنے کا ضابطہ خود بنائے۔ اس کا جسم اور اس کی ساری قویں اللہ کی ملک اور اس کا عطا یہ ہیں لہذا یہ ان کو خود کرنے کا حق دار نہیں ہے بلکہ جن یہ چیزیں اس کو عطا کی ہیں اُسی کی مرضی کے مطابق اسے ان کو استعمال کرنا چاہیے۔

اسی طرح جو اشیاء اس کے گرد و پیش دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ زمین، جانور، پانی، بیاتات، معدنیات وغیرہ..... یہ سب اللہ کی ملک ہیں۔ انسان ان کا مالک نہیں ہے، لہذا انسان کو ان پر بھی اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں بلکہ اسے ان کے ساتھ اس قانون کے مطابق بتاؤ کرنا چاہیے جو اصل مالک نے مقرر کیا ہے۔

اسی طرح وہ تمام انسان بھی جوز میں پر بستے ہیں، اور جن کی زندگی ایک دوسرے سے وابستہ ہے، اللہ کی رعیت ہیں۔ لہذا ان کو اپنے باہمی تعلقات کے بارے میں خود اصول اور ضابطے مقرر کر لینے کا حق نہیں ہے۔ ان کے جملہ تعلقات خدا کے بنائے ہوئے قانون پر مبنی ہونے چاہیں۔

رہی یہ بات کہ وہ خدا کا قانون کیا ہے؟ تو پیغمبر کہتے ہیں کہ جس ذریعہ علم کی بنا پر ہم تمہیں دنیا کی اور خود تمہاری یہ حقیقت بتا رہے ہیں، اسی ذریعہ علم سے ہم کو خدا کا قانون بھی معلوم ہوا ہے۔ خدا نے خود ہم کو اس بات پر مأمور کیا ہے کہ یہ علم تم تک پہنچا دیں۔ لہذا تم ہم پر اعتماد کرو۔ ہمیں اپنے بادشاہ کا نمائندہ تسلیم کرو اور ہم سے اس کا مستند قانون لو۔

پھر پیغمبر ہم سے کہتے ہیں کہ یہ جو تم بظاہر دیکھتے ہو کہ سلطنت عالم کا سارا کاروبار ایک نظم کے ساتھ چل رہا ہے مگر نہ خود سلطان نظر آتا ہے نہ اس کے کار پرواز کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ جو تم ایک طرح کی خود مختاری اپنے اندر محسوس کرتے ہو کہ جس طرح چاہو، کام کرو، ماکانہ روشن بھی اختیار کر سکتے ہو اور اصل مالک کے سواد و سروں کے سامنے بھی اطاعت و بندگی میں سر جھکا سکتے ہو، ہر صورت میں تم کو رزق ملتا ہے۔ وسائل کاربہم پہنچتے ہیں اور بغاوت کی سزا فوراً نہیں دی جاتی، یہ سب دراصل تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ چونکہ تم کو عقل، قوت استنباط اور قوت انتخاب دی گئی ہے، اس لیے مالک نے اپنے آپ کو اور اپنے نظام سلطنت کو تمہاری نظر وں سے اوچھل کر دیا ہے۔ وہ تمہیں آzmanا چاہتا ہے کہ تم اپنی قوتوں سے کس طرح کام لیتے ہو۔ اس نے تم کو سمجھ بوجھ، انتخاب کی آزادی (Freedom of Choice) اور ایک طرح کی خود اختیاری (Autonomy) عطا کر کے چھوڑا ہے۔ اب اگر تم اپنی رعیت ہونے کی حیثیت کو سمجھو اور برضا و رغبت اس حیثیت کو سمجھو اور برضا و رغبت

اس حیثیت کا اختیار کرلو، بغیر اس کے کتم پر اس حیثیت میں رہنے کے لیے کوئی جبر ہو، تو اپنے مالک کی آزمائش میں کامیاب ہو گے۔ اور اگر رعایت ہونے کی حیثیت کو نہ سمجھو، یا سمجھنے کے باوجود باغبانہ روشن اختیار کرو تو امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے۔ اسی امتحان کی غرض سے تم کو دنیا میں کچھ اختیارات دیئے گئے ہیں، دنیا کی بہت سی چیزیں تمہارے قبضہ قدرت میں دی گئی ہیں، اور تم کو عمر بھر کی مہلت دی گئی ہے۔

اس کے بعد پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ذہنوی زندگی چونکہ امتحان کی مہلت ہے۔ لہذا یہاں نہ حساب نہ جزا سزا یہاں جو کچھ دیا جاتا ہے لازم نہیں کہ وہ کسی عمل نیک کا انعام ہی ہو۔ وہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے یا جو کچھ تم کر رہے ہو وہ درست ہے۔ بلکہ دراصل وہ محض امتحان کا سامان ہے، مال، دولت، اولاد، خدام حکومت، اسبابِ زندگی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو تم کو امتحان کی غرض سے

۱۔ اس سلسلہ میں یہ بات اچھی طرح ہے، ہن شیخ کرتی چاہیے کہ یہ عالمِ حس میں ہم اس وقت میں دراصل عالمِ طبعی ہے نہ کہ عالمِ اخلاقی۔ جن تو انہیں پر کائنات کا موجودہ نظامِ جل رہا ہے وہ اخلاقی تو انہیں نہیں ہیں بلکہ طبعی تو انہیں ہیں۔ اس لیے موجودہ نظام کائنات میں اعمال کے اخلاقی تنائی کو بڑی طرح مترتب نہیں ہو سکتے۔ وہ اگر ترب ہو سکتے ہیں تو صرف اسی حد تک جس حد تک کہ تو انہیں طبعی ان کو ترب ہونے کا موقع دیں۔ ورنہ جہاں تو انہیں طبعی ان کے ظاہر کے لیے ساز گارتے ہوں وہاں ان کا ظاہر ہو نا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی تو قتل کر دے تو اس فل کے اخلاقی نتیجہ کا ترب ہونا موقوف ہے اس امر پر کہ تو انہیں طبعی اس کا سراغ لگتے اور اس کے اوپر جرم ٹابت ہونے اور اس پر اخلاقی سزا کے نافذ ہونے میں مدد گا ہوں۔ اگر وہ مدد گارہ ہوں تو کوئی اخلاقی نتیجہ سرے سے ترب ہو گا ہی نہیں اور اگر وہ سازگاری کر سکیں تو بھی اس فل کے پورے اخلاقی تنائی کا ترب نہ ہو سکیں گے، کیونکہ متقول کے عرض قائل کا محض کردار دیا جانا اس فل کا پورا اخلاقی نتیجہ نہیں ہے جس کا اس نے ادھار کیا تھا۔ اسی لیے یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی۔ دار الجبرا ہونے کے لیے ایک ایسا نظامِ عالم درکار ہے جس میں موجودہ نظامِ عالم کے بر عکس مکرار، تو انہیں اخلاقی ہوں اور تو انہیں طبعی محض ان کے خادم کی حیثیت رکھتے ہوں۔

دی جاتی ہیں تا کہ تم ان پر کام کر کے وکھاؤ اور اپنی اچھی یا بُری قابلیتوں کا اظہار کرو۔ اسی طرح جو تکلیفیں، نقصانات، مصائب وغیرہ آتے ہیں۔ وہ بُھی لازماً کسی عمل بدکی سزا نہیں ہیں بلکہ ان میں سے بعض قانون فطرت کے تحت آپ سے آپ ظاہر ہونے والے نتائج ہیں۔ بعض آزمائش کے ذیل میں آتے ہیں۔ اور بعض اس وجہ سے پیش آتے ہیں کہ حقیقت کے خلاف رائے قائم کر کے جب تم ایک روایہ اختیار کرتے ہو تو الاحالہ تم کو چوٹ لگتی ہے۔ بہر حال یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے بلکہ دار الامتحان ہے۔ یہاں جو کچھ نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ کسی طریقہ یا کسی عمل کے صحیح یا غلط، نیک یا بد، قابل ترک یا قابل اخذ ہونے کا معیار نہیں بن سکتے۔ اصلی معیار آخرت کے نتائج ہیں۔ مہلت کی زندگی ختم ہونے کے بعد ایک دوسرا زندگی ہے جس میں تمہارے پورے کارنامے کو جائز کافی صلہ کیا جائے گا، کہ تم امتحان میں کامیاب ہوئے یا ناکام۔ اور وہاں جس چیز پر کامیابی و ناکامی کا انحصار ہے وہ یہ ہے کہ:

۱۔ خلاصنا کرنے والے کیا بری میں جٹلا ہونا، کیسے اس گناہ کی اخلاقی سزا نہیں ہے بلکہ اس کا طبعی نتیجہ ہے۔ اگر وہ علاج کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بُری سے نجات جائے گا مگر اخلاقی سزا سے نہ پہنچے گا۔ اگر تو پرے کے واقعی سزا سے نجات جائے گا مگر بُری دوسرے ہوگی۔

۲۔ مثلاً کسی شخص کا افالس میں جٹلا ہونا اس کے حق میں اس امر کی آزمائش ہے کہ وہ اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے تاجراز دو رائج استعمال کرتا ہے یا جائز وسائل ہی سے کام لینے پر ثابت قدم رہتا ہے، مصائب کے ہجوم میں حق پر تی پر قائم رہتا ہے یا مضر بُر کر بُر اس کے سامنے سر جھکاد رہتا ہے۔

۳۔ یعنی جب انسان اس دنیا کو بے خدا اور اپنے آپ کو خود تحریک کر کام کرتا ہے تو پوچھ کنیٰ الواقع دنیا بے خدا ہے اور انسان خود تحریک ہے، اس لیے امر واقعی کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے دل الاحالہ چوٹ کھاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آگ کو کھلونا بھجو کر آپ ہاتھ میں پکڑ لیں تو ہاتھ جل جائے گا کیونکہ آپ نے امر واقعی کے خلاف روایہ اختیار کیا۔

اولاً تم نے اپنی قوتِ نظر و استدلال کے صحیح استعمال سے اللہ تعالیٰ کے حاکمِ حقیقی ہونے اور اس کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم و ہدایت کے مجانب اللہ ہونے کو پہنچانا یا نہیں، اور ثانیاً، اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد آزادی انتخاب رکھنے کے باوجود وہ تم نے اپنی رضا و رغبت سے اللہ کی حاکیت اور اس کے حکم شرعی کے سامنے سر تسلیم ختم کیا یا نہیں۔

نظریہِ اسلامی کی تنقید:

دنیا اور انسان کے متعلق یہ نظریہ جو پیغمبروں نے پیش کیا ہے، ایک مکمل نظریہ ہے۔ اس کے تمام اجزاء میں ایک منطقی ربط ہے کوئی جزو دوسرے جزو سے متناقض نہیں ہے۔ اس سے تمام واقعاتِ عالم کی پوری توجیہہ اور آثارِ کائنات کی پوری تعبیر ملتی ہے۔ کوئی ایک چیز بھی مشاہدہ یا تجربہ میں ایسی نہیں آتی جس کی توجیہہ اس نظریہ سے نہ کی جاسکتی ہو۔ لہذا یہ ایک علمی نظریہ (Scientific Theory) ہے۔ ”علمی نظریہ“ کی جو تعریف بھی کہا جائے وہ اس پر صادق آتی ہے۔
پھر کوئی مشاہدہ یا تجربہ آج تک ایسا نہیں ہوا جس سے یہ نظریہ ثبوت جاتا ہو۔
لہذا یہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو نے ہوئے نظریات میں اس کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔

لے کری زمانے کے علمی نظریات کا اس کے خلاف ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ نظریہ ثبوت گیا ہے۔ ایک علمی نظریہ کو صرف حقائق (Facts) توڑنے ہی نہ کرنے کی طبیعت ہے۔ لہذا جب تک یہ نظریہ جائے کہ اینہا کے پیش کیے ہوئے اس تصور کا نات و انسان کو کس ثابت شدہ حقیقت نے غلط ثابت کر دیا ہے، اس نوٹے ہوئے نظریات میں شمار کرنا قطعاً ایک غیر علمی اور مستحباتہ اذماء ہے۔

پھر نظام عالم کا جو مشاہدہ ہم کرتے ہیں اس سے یہ نظریہ نہایت اغلب نظر آتا ہے۔ کائنات میں جوز بردست تنظیم پائی جاتی (Most Probable) ہے اس کو دیکھ کر یہ کہنا زیادہ قرین داشت ہے کہ اس کا کوئی ناظم ہے، یہ نسبت اس کے کوئی ناظم نہیں ہے۔ اسی طرح اس تنظیم کو دیکھ کر یہ تبیجہ نکالنا زیادہ معقول ہے کہ یہ مرکزی نظام ہے اور ایک ہی مختار کل اس کا ناظم ہے، یہ نسب اس کے کہ یہ لا مرکزی نظام ہے اور بہت سے ناظموں کے ماتحت چل رہا ہے۔ اسی طرح جو حکمت کی شان اس کائنات کے نظام میں علاویہ محسوس ہوتی ہے اُسے دیکھ کر یہ رائے قائم کرنا زیادہ قریب از عقل ہے کہ یہ حکیمانہ اور با مقصد نظام ہے، بُنہبت اس کے کہ بے مقصد ہے اور محض بچے کا کھیل ہے۔ پھر جب ہم اس حیثیت سے غور کرتے ہیں کہ اگر واقعی یہ نظام کائنات ایک سلطنت ہے اور انسان اس نظام کا ایک جز ہے تو یہ بات ہم کو سر اسر مقول معلوم ہوتی ہے کہ اس نظام میں انسان کی خود مختاری وغیرہ مداری کے لیے کوئی جگہ نہ ہوئی چاہیے۔ اس لحاظ سے یہ ہم کو نہایت معقول (Most Reasonable) نظریہ معلوم ہوتا ہے۔

پھر جب عملی نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ بالکل ایک قابل عمل نظریہ ہے۔ زندگی کی ایک پوری ایکسیم اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ اس نظریہ پر منت ہے۔ فلسفہ اور اخلاق کے لیے، علوم و فنون کے لیے، صلح و جنگ اور میں الاقوامی تعلقات کے لیے، غرض زندگی کے ہر پہلو اور ہر ضرورت کے لیے یہ ایک مستقل بنیاد فراہم کرتا ہے اور

کسی شعبہ زندگی میں بھی انسان کو اپنارویہ متعین کرنے کے لیے اس نظریہ سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

اب ہمیں صرف یہ دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ اس نظریے سے دنیا کی زندگی میں کس قسم کا رویہ بتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں؟

انفرادی زندگی میں یہ نظریہ دوسرے جاہلی نظریات کے بر عکس ایک نہایت ذمہ دارانہ اور نہایت منضبط رویہ (Discipline) پیدا کرتا ہے اس نظریہ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے جسم اور اس کی طاقتیں اور دنیا اور اس کی کسی چیز کو بھی اپنی ملک سمجھ کر خود مختارانہ استعمال نہ کرے بلکہ خدا کی ملک سمجھ کر صرف اس کے قانون کی پابندی میں استعمال کرے۔ ہر چیز کو جو اسے حاصل ہے خدا کی امانت سمجھے اور یہ سمجھتے ہوئے اس میں تصرف کرے کہ مجھے اس امانت کا پورا حساب دینا ہے اور حساب بھی اس کو دینا ہے جس کی نظر سے میرا کوئی فعل بلکہ کوئی دل میں چھپا ہوا رادہ تک پوشیدہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص ہر حال میں ایک ضابطہ کا پابند ہو گا۔ وہ خواہشات کی بندگی میں کبھی شتر بے مہار نہیں بن سکتا۔ وہ ظالم اور خائن نہیں ہو سکتا۔ اس کی سیرت پر کامل اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ وہ ضابطہ کی پابندی کے لیے کسی خارجی دباؤ کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کے اپنے نفس میں ایک زبردست اخلاقی انضباط پیدا ہو جاتا ہے جو اسے ان موقع پر بھی راستی اور حق پر قائم رکھتا ہے جہاں اسے کسی دنیوی طاقت کی باز پرس کا خطرہ نہیں ہوتا یہ خدا کا خوف اور امانت کا احساس وہ چیز ہے جس سے

بڑھ کر سوسائٹی کو قابلِ اعتماد فراہم کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ تصور میں نہیں آ سکتا۔

مزید برآں یہ نظریہ آدمی کو نہ صرف سماں و جہد کا آدمی بناتا ہے، بلکہ اس کی سماں و جہاد کو خود غرضی، نفس پرستی، یا قوم پرستی کے بجائے حق پرستی اور بلندتر اخلاقی مقاصد کی راہ پر لگادیتا ہے۔ جو شخص اپنے متعلق یہ رائے رکھتا ہو کہ میں دنیا میں بیکار نہیں آیا ہوں بلکہ خدا نے مجھے کام کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے، اور میری زندگی اپنے لیے یا اپنے دوسرے متعلقین کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کام کے لیے ہے جس میں خدا کی رضا ہو، اور میں یونہی چھوڑ نہیں جاؤں گا، بلکہ مجھ سے پورا حساب لیا جائے گا کہ میں نے اپنے وقت کا اور اپنی قوتوں کا کتنا اور کس طرح استعمال کیا، ایسے شخص سے زیادہ کوشش کرنے والا، نتیجہ خیز اور صحیح کوشش کرنے والا آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ نظریہ ایسے بہتر افراد پریدا کرتا ہے کہ ان سے بہتر افرادی رویہ کا تصور کرنا مشکل ہے۔

اب اجتماعی پہلو میں دیکھئے۔

سب سے پہلے تو یہ نظریہ انسانی اجتماع کی بنیاد بدل دیتا ہے۔ اس نظریہ کی رو سے تمام انسان خدا کی رحمیت ہیں۔ رحمیت ہونے کی حیثیت سے سب کے حقوق میں، سب کی حیثیت یکساں، اور سب کے لیے موقع یکساں۔ کسی شخص، کسی خاندان، کسی طبقہ، کسی قوم، کسی نسل کے لیے دوسرے انسانوں پر نہ کسی قسم کی برتری و فویت ہے، نہ امتیازی حقوق۔ اس طرح انسان پر انسان کی حاکمیت اور فضیلت کی جڑکت جاتی ہے اور وہ تمام خرابیاں یک لخت دور ہو جاتی ہیں جو با دشائی جا گیرداری،

نو (Aristocracy) برہمیت و پاپائیت اور آمریت سے پیدا ہوتی ہیں۔

پھر یہ چیز قبیلے، قوم، نسل، وطن اور رنگ کے تعصبات کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے۔

جن کی بدولت دنیا میں سے زیادہ خون ریزیاں ہوئی ہیں۔ اس نظریہ کی رو سے تمام روزے زمین خدا کا ملک ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد اور خدا کے بندے ہیں، اور فضیلت کی بنیاد نسل و نسب، مال و دولت، یارگُنگ کی پسیدی و سرخی پر نہیں بلکہ اخلاق کی پاکیزگی اور خدا کے خوف پر ہے۔ جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور اصلاح و تقویٰ پر عمل کرنے والا ہے، وہی سب سے افضل ہے۔

اسی طرح انسان اور انسان کے درمیان اجتماعی ربط و تعلق یا فرق و امتیاز کی بنا پر

بھی اس نظریہ میں کلیتہ تبدیلی کر دی گئی ہے۔ انسان نے اپنی ایجاد سے جن چیزوں کو اجتماع و افتراق کی بنیاد پر ہایا ہے، وہ انسانیت کو بے شمار حصوں میں تقسیم کرتی ہیں اور ان حصوں کے درمیان ناقابل عبور دیواریں کھڑی کر دیتی ہیں۔ کیونکہ نسل، یا وطن، یا قومیت، یارگُنگ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو آدمی تبدیل کر سکتا ہو اور ایک گروہ میں سے دوسرے گروہ میں جا سکتا ہو۔ برعکس اس کے یہ نظریہ انسان اور انسان کے درمیان اجتماع و افتراق کی بنادکی اور اس کے قانون کی پیروی پر رکھتا ہے۔ جو لوگ مخلوقات کی بندگی چھوڑ کر خدا کی بندگی اختیار کر لیں اور خدا کے قانون کو اپنی زندگی کا واحد قانون تسلیم کر لیں وہ سب ایک جماعت ہیں اور جو ایسا نہ کریں وہ دوسری جماعت۔ اس طرح تمام اختلافات مٹ کر صرف ایک اختلاف باقی رہ جاتا ہے اور

وہ اختلاف بھی قابل غور ہے۔ کیونکہ ہر وقت ایک شخص کے لیے ممکن ہے کہ اپنا عقیدہ اور طرز زندگی بدل دے اور ایک جماعت سے دوسری جماعت میں چلا جائے۔ اس طرح اگر ذینا میں کوئی عالمگیر میں الاقوامی برادری بنتی ممکن ہے تو وہ اسی نظریے پر بن سکتی ہے۔ دوسرے تمام نظریات انسانیت کو چھاڑنے والے ہیں، جمع کرنے والے نہیں۔

ان تمام اصلاحات کے بعد جو سوسائٹی اس نظریہ پر بنتی ہے اس کی ذاتی اسپرٹ اور اجتماعی تغیر (Social Structure) بالکل بدلتی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں اسٹیٹ انسان کی حاکمیت پر نہیں بلکہ خدا کی حاکمیت پر بنتا ہے۔ حکومت خدا کی ہوتی ہے۔ قانون خدا کا ہوتا ہے۔ انسان صرف خدا کے ایجنت کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ یہ چیز اول تو ان ساری خرابیوں کو دور کر دیتی ہے جو انسان پر انسان کی حکومت اور انسان کی قانون سازی سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ایک عظیم الشان فرق جو اس نظریہ پر اسٹیٹ بننے سے واقع ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے پورے نظام میں عبادت اور تقویٰ کی اسپرٹ بھیل جاتی ہے۔ رائی اور رعایت دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی حکومت میں ہیں اور ہمارا معاملہ برآ راست اُس خدا سے ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ نیکس دینے والا یہ سمجھ کر نیکس دیتا ہے کہ وہ خدا کو نیکس دے رہا ہے، اور نیکس لینے والے اور اس نیکس کو خرچ کرنے والے یہ سمجھتے ہوئے کام کرتے ہیں کہ یہ

(۱) تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہوئی کتاب "اسلام کا نظریہ سیاسی" مطبوعہ اسلامک بلی کیشنزل میڈیا ہو رہا۔

مال خدا کامال ہے اور ہم امین کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں ایک سپاہی سے لے کر ایک نجح اور گورنمنٹ کے کارندہ حکومت اپنی ڈیوٹی اسی ذہنیت کے ساتھ انعام دیتا ہے جس ذہنیت کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے دونوں کام اس کے لیے یکساں عبادت ہیں اور دونوں میں وہی ایک تقویٰ اور خیشیت کی روح درکار ہے۔ باشندے اپنے اندر سے جن لوگوں کو خدا کی نیابت کا کام انعام دینے کے لیے چنتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو صفت تلاش کی جاتی ہے وہ خوف خدا اور امانت و صافت کی صفت ہے اس طرح سطح پر وہ لوگ اُبھر کر انتہے ہیں اور اختیارات ان کے ہاتھوں میں دیئے جاتے ہیں جو سوسائٹی میں سب سے بہتر اخلاق کے حامل ہوتے ہیں۔

تمدن معاشرت میں بھی یہ نظر یہ تقویٰ اور طہارت اخلاق کی تھی اسپرٹ پھیلا دیتا ہے اس میں نفس پرستی کے بجائے خدا پرستی ہوتی ہے، ہر ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان خدا کا واسطہ حائل ہوتا ہے، اور خدا کا قانون دونوں کے تعلقات کو منضبط کرتا ہے۔ یہ قانون چونکہ اس نے بنایا ہے جو تمام نفسانی خواہشات اور ذاتی اغراض سے پاک ہے، اور علیم و حکیم بھی ہے اس لیے اس میں فتنے کا ہر دروازہ اور ظلم کا ہر راستہ بند کیا گیا ہے اور انسانی فطرت کے ہر ہملو اور اس کی ہر ضرورت کی رعایت کی گئی ہے۔

یہاں اتنا موقع نہیں کہ میں اُس پوری اجتماعی عمارت کا نقشہ پیش کروں جو اُس نظریہ پر بنتی ہے مگر جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ

پیغمبروں نے جو نظریہ کائنات و انسان پیش کیا ہے وہ کس قسم کا رہ یہ پیدا کرتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں اور کیا ہو سکتے ہیں پھر یہ بات بھی نہیں کہ یہ شخص کاغذ پر ایک خیالی نقشہ ہو۔ بلکہ تاریخ میں اس نظریہ پر ایک اجتماعی نظام اور ایک ائمہت بنایا کردکھایا جا گکا ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ جیسے افراد اس نظریہ پر تیار کیے گئے تھے نہ اس سے بہتر افراد کبھی روئے زمین پر پائے گئے اور نہ اس ائمہت سے بڑھ کر کوئی ائمہت انسان کے لیے رحمت ثابت ہوا۔ اس کے افراد میں اپنی اخلاقی ذمہ داری کا احساس اتنا بڑھ گیا تھا کہ ایک صحرائی عورت کو زنا سے حمل ہو جاتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میرے لیے اس جرم کی سزا سنگ ساری جسمی ہولناک سزا ہے، مگر وہ خود حمل کر آتی ہے اور درخواست کرتی ہے کہ اس پر سزا انافذ کی جائے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ وضع حمل کے بعد حمل کے بعد آئیو، اور بغیر کسی مچکلہ و حمانت کے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وضع حمل کے بعد وہ پھر صحراء سے آتی ہے اور سزادیے جانے کی درخواست کرتی ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ بچہ کو دو دوہ پلا اور جب دو دوہ پلانے کی مدت ختم ہو جائے تب آئیو۔ پھر وہ صحرائی طرف واپس چل جاتی ہے اور کوئی پویس کی مگر انی اس پر نہیں ہوتی۔ رضاعت کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ پھر آ کر رجفا کرتی ہے کہ اب اسے سزادے کر اس گناہ سے پاک کر دیا جائے جو اس سے سرزد ہو چکا ہے۔ چنانچہ اسے سگار کیا جاتا ہے اور جب وہ مر جاتی ہے تو اس کے لیے دعائے رحمت کی جاتی ہے، اور جب ایک شخص کی زبان سے اس کے حق میں اتفاق آیے کلمہ نکل جاتا ہے کہ کیسی بے حیاء عورت تھی تو جواب میں فرمایا جاتا ہے کہ ”خدا

نہ م! اس نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر ناجائز مخصوصوں لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو بخشن دیا جاتا۔ ” یہ تو اس سوسائٹی کے افراد کا حال تھا اور اس اسٹیٹ کا حال یہ تھا کہ جس حکومت کی آمدی کروڑوں روپے تک پہنچ ہوئی تھی اور جس کے خزانے ایران و شام و مصر کی دولت سے معمور ہو رہے تھے، اس کا صدر صرف ڈیڑھ سور و پیغمبر مہینہ شوخاہ لیتا تھا، اور اس کے شہریوں میں ڈھونڈے سے بھی بمشکل کوئی ایسا شخص ملتا تھا جو خیرات لینے کا مستحق ہو۔

اس تجربہ کے بعد بھی اگر کسی شخص کو یہ اطمینان حاصل نہ ہو کہ انبیاء نے نظام کائنات کی حقیقت اور اس میں انسان کی حیثیت کے متعلق جو نظریہ پیش کیا ہے وہ حق ہے تو ایسے شخص کے اطمینان کے لیے کوئی دوسری صورت ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ خدا اور فرشتوں اور آخرت کی زندگی کا براہ راست عین مشاہدہ تو اُسے بہر حال حاصل نہیں ہو سکتا۔ جہاں مشاہدہ ممکن نہ ہو وہاں تجربے سے بڑھ کر حقت کا کوئی دوسرے معیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک طبیب بیمار کے اندر مشاہدہ کر کے یہ نہیں دیکھ سکتا کہ الواقع سسٹم میں کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے تو مختلف دوائیں دے کر دیکھتا ہے، اور جو دو اس اندر ہیری کو ٹھہری میں ٹھیک نشانہ پر جا کر پیش کی ہے اس کا مرض کو ڈور کر دینا ہی اس بات پر قطعی دلیل ہوتا ہے کہ سسٹم میں فی الواقع جو خرابی تھی یہ دو اس کے عین مطابق تھی۔ اسی طرح جب انسانی زندگی کی کل کسی دوسرے نظریہ سے درست نہیں ہوتی اور صرف انبیاء کے نظریہ ہی سے درست ہوتی ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ

نظریہ حقیقت کے مطابق ہے۔ فی الواقع یہ کائنات اللہ کی سلطنت ہے اور واقعی اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جس میں انسان کو اپنے کارنامہ حیات دنیوی کا حساب دینا ہے۔

